



## سوال

(515) بیوی کو اپنے حقوق سے دستبردار ہونے اور طلاق لینے کے درمیان اختیار دینا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب ایک آدمی کی دو بیویاں ہوں، اس کی ماں اس کو ایک کے حقوق میں کوتاہی کرنے پر مجبور کر دے تو وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس حقوق کی کوتاہی پر صبر کر کے رہنے اور اپنے سے جدائی کے درمیان اختیار دے، بیوی نے اس کے پاس رہنے کو ہی اختیار کر لیا۔ کیا مرد کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب خاوند بیوی کو اختیار دے اور بیوی اس کے پاس رہنے کو پسند کر لے تو اس معاملے میں کوئی حرج نہیں اور مرد پر اس سلسلہ میں کوئی گناہ نہیں، گناہ اور حرج اس کی ماں پر ہے جس نے اس کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ ماں کو از خود یا کسی ایسے شخص کے واسطے سے جس کی بات وہ مانتی ہو نصیحت کرے اور اس کو بتائے کہ اس کو ایسا کرنا حلال نہیں ہے اور اس کو دنیا و آخرت کی سزا کا خطرہ ہے تو اس کو یہ نصیحت کرنا لازم ہے نہیں تو اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ (السعدی)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 455

محدث فتویٰ